

PRESS RELEASE

For immediate release
March 13, 2020

SECP Reviews Stock Market Situation with SROs

Islamabad, March 13, 2020: The Securities and Exchange Commission of Pakistan's (SECP) team lead by the Chairman SECP and Commissioner(SM) held a detailed meeting with the CEOs of Pakistan Stock Exchange, National Clearing Company and Central Depository Company (Self-Regulatory Organizations - SROs) this morning, to review and discuss the stock market situation, risk management and business continuity.

The index based market halts were triggered for the third time during this week. This cooling-off period gave an opportunity to investors to align their trading strategy and collection of margins by the Clearing Company. The participants of the meeting affirmed that risk management system was functioning efficiently and margins were being collected timely. The Market operations were running smoothly as a whole. The SROs further apprised that their business continuity plans and disaster recovery setup was in place based on SECP's earlier instructions. The Chairman SECP emphasized on conducting drills to ensure remote operations of trading, clearing, settlement and custody services while allowing remote access of market participants to such systems in case onsite operations or physical access was impacted. He also suggested adoption of further preventive measures against spread of coronavirus.

The SECP advised SROs to remain vigilant, continue to provide uninterrupted access to market participants and ensure effective risk management while maintaining actively engagement with their boards of directors and committees for close coordination.

سٹاک ایکس چینج کی موجودہ صورتحال اور رسک مینجمنٹ کا جائزہ لینے کے لئے ایس ای سی پی میں اہم اجلاس

اسلام آباد (مارچ 13) موجودہ صورتحال کے تناظر میں سٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ، رسک مینجمنٹ اور کاروباری تسلسل کے اقدامات کا جائزہ لینے کے لئے سکیورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان میں اہم اجلاس منعقد ہوا۔ ایس ای سی پی کے چیئرمین، عامر خان کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں ایس ای سی پی کے کمشنر سکیورٹیز مارکیٹ، پاکستان سٹاک ایکسچینج، نیشنل کلائنگ کمپنی اور سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسرز اور دیگر حکام نے شرکت کی۔

اجلاس کو بتایا گیا کہ رواں ہفتے کے دوران انڈکس مارکیٹ میں ٹریڈنگ کو روکنے والے ہالٹ میکانزم نے تین بار مارکیٹ کی ٹریڈنگ کو عارضی طور پر معطل کیا۔ مارکیٹ کی ٹریڈنگ میں 45 منٹ کے اس وقت کے وقفے نے سرمایہ کاروں کو سوچ سمجھ کو فیصلہ کرنے کا موقع فراہم کیا جبکہ کلائنگ کمپنی کو

مارجن جمع کرنے کے لئے درکار وقت بھی میسر آیا۔ اجلاس کے شرکاء نے اطمینان کا اظہار کیا کہ مارکیٹ میں رسک مینجمنٹ کا سسٹم مستعدی سے کام کر رہا ہے جبکہ ٹریڈنگ مارجن بھی بروقت اکٹھے کئے گئے۔ مجموعی طور پر مارکیٹ کے تمام آپریشن باقاعدگی سے بلار کاؤٹ کام کر رہے ہیں۔

مارکیٹ سے منسلک اداروں، پاکستان اسٹاک ایکس چینج، کلیئرنگ کمپنی اور سینٹرل ڈیپازٹری نے کسی بھی ہنگامی صورتحال میں کاروباری تسلسل کو یقینی بنانے کے لئے تشکیل دی گئی منصوبہ بندی پر بریفنگ دی۔ ایس ای سی پی نے مارکیٹ سے منسلک اداروں کو ہنگامی صورتحال کے لئے منصوبہ بندی کی ہدایت جاری کی تھیں۔

چئیرمین ایس ای سی پی عامر خان نے حصص کی ٹریڈنگ، کلیئرنگ، سیٹلمنٹ اور کسٹڈی سروسز کے تسلسل کو فاصلے سے یادفتروں میں حاضری کے بغیر جاری رکھنے کے لئے مشقیں کرنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ ایسی صورتحال جس میں متعلقہ افسران کا دفاتر میں حاضر ہونا مشکل ہو تو متعلقہ حکام/افراد گھروں سے مارکیٹ کی ٹریڈنگ کو یقینی بناسکیں۔ انہوں نے کرونا وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ کو روکنے کے لئے تمام اداروں میں مزید احتیاطی اقدامات کرنے کی بھی ہدایت کی۔

ایس ای سی پی نے کیپٹل مارکیٹ سے منسلک تمام اداروں کو مستعد رہتے ہوئے سٹاک مارکیٹ میں بلار کاؤٹ ٹریڈنگ کو جاری رکھنے اور رسک مینجمنٹ کے موثر اقدامات کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے تجویز کیا کہ وہ ہم آہنگی کے لئے اپنے اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز، دیگر منسلک اداروں اور ایس ای سی پی کے ساتھ سے مسلسل رابطہ رکھیں۔

کلرز:-

موجودہ صورتحال میں سٹاک مارکیٹ میں رسک مینجمنٹ کا جائزہ لینے کے لئے اہم اجلاس ایس ای سی پی کے چئیرمین عامر خان نے اجلاس کی صدارت کی
اجلاس میں سٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ، رسک مینجمنٹ اور کاروباری تسلسل کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا
اجلاس میں پاکستان اسٹاک ایکس چینج، نیشنل کلیئرنگ کمپنی اور سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی کے حکام نے شرکت کی۔
رواں ہفتے کے دوران انڈکس مارکیٹ میں ٹریڈنگ کو روکنے والے ہالٹ میکنز نے تین بار مارکیٹ کی ٹریڈنگ کو عارضی طور پر معطل کیا۔
مارکیٹ کی ٹریڈنگ میں وقفے نے سرمایہ کاروں کو سوچ سمجھ کو فیصلہ کرنے کا موقع فراہم کیا
ٹریڈنگ میں وقفے کے دوران کلیئرنگ کمپنی نے بروقت مارجن اکٹھے کئے۔
سٹاک مارکیٹ میں رسک مینجمنٹ کا سسٹم مستعدی سے کام کر رہا ہے
مجموعی طور پر مارکیٹ کے تمام آپریشن باقاعدگی سے بلار کاؤٹ کام کر رہے ہیں۔

پی ایس ایکس، کلیئرنگ کمپنی اور سینٹرل ڈیپازٹری نے ہنگامی صورتحال میں کاروباری تسلسل کو یقینی بنانے کی منصوبہ بندی پر بریفنگ دی۔
مارکیٹ میں حصص کی ٹریڈنگ، کلیئرنگ اور سیٹلمنٹ کو دفاتروں میں حاضری کے بغیر جاری رکھنے کی مشقیں کی جائیں؛ عامر خان
کرونا وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ کو روکنے کے لئے تمام اداروں میں مزید احتیاطی اقدامات کئے جائیں؛ عامر خان